

50112 - رمضان مہینہ 1740#میں منعقد ہونے والے فٹ بال ٹورنامنٹ کا حکم

سوال

رمضان میں ہونے والے فٹ بال ٹورنامنٹ کا کیا حکم ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

مومن کے لائق تو یہی ہے کہ وہ خیر وبھلائی کے موسموں کو موقع غنیمت جانتے ہوئے اس خیر وبھلائی کے موسم میں اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ اطاعت وفرمانبرداری کرے ۔

اور ان میں سب سے افضل اور بہتر موسم رمضان المبارک کا مہینہ ہے ، مسلمان اس ماہ مبارک میں کتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے جس کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے ۔

ماہ رمضان تو روزے رکھنے اور قیام کرنے اور تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و انکار اور اس طرح صدقہ و خیرات اور روزہ دار کی افطاری کروانے اور مساکین کے ساتھ رحم کرنے کا مہینہ ہے ، اسی ماہ مبارک میں مساجد میں اعتکاف کرتے ہوئے دنیا سے الگ تہلگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے خاص لگاؤ لگایا جاتا ہے اور اس کی عبادت میں مصروف ہوا جاتا ہے ۔

اس کے فضائل تو شمار ہی نہیں کیے جاسکتے ، اور اتنے معروف و مشہور ہیں کہ ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاسکتا ۔

اس ماہ مبارک کی ہر رات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں ، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں ، گناہوں کے بخشش کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں روزہ رکھنا ، اور لیلۃ القدر کا قیام بھی شامل ہے ۔

محروم تو وہی شخص ہے جو اس ماہ مبارک کی خیر وبھلائی سے ہی محروم ہو رہے ، اور حقیقتاً خائب و خاسر اور نقصان میں تو وہی شخص ہے جس سے یہ پورا مہینہ ختم ہو جائے اور وہ اپنے گناہ ہی معاف نہ کروا سکے ، لہذا اگر اس کے گناہ رمضان میں معاف نہیں ہوئے تو اور کب معاف ہونگے !!

اور اگر وہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اور کب اللہ تعالیٰ کی

طرف رجوع کرے گا ؟ !

اور اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(وہ شخص ذلیل ورسوا ہو جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور ختم بھی ہو گیا لیکن اس کے گناہ معاف نہ ہوسکے)
سنن ترمذی حدیث نمبر (3545) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سنن ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے

اور جب وہ ماہ رمضان میں اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا غنیمت نہیں سمجھے گا تو کب وہ
غنیمت سمجھے گا ؟ !

مسلمان شخص تو اس ماہ مبارک میں ایک اطاعت کے بعد دوسری اطاعت کرتا ہے ، اور ایک عبادت بجالانے کے بعد
دوسری عبادت میں مشغول ہوتا ہے ، کبھی تو نماز کی ادائیگی اور کہیں قرآن مجید کی تلاوت اور تسبیح و تحمید اور انکار
میں مصروف رہتا ہے ۔

اور کہیں روزہ دار کی افطاری میں مشغول ہے ، اور رات کے وقت تراویح اور تہجد اور سحری کے وقت توبہ و استغفار
میں لگا رہتا ہے ۔ الخ

سوال نمبر (26869) کے جواب میں رمضان المبارک کے متعلق مسلمان شخص کے لیے ایک مختصر سا پروگرام
اور خاکہ پیش کیا گیا ہے آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں ۔

تو مومن شخص اس ماہ مبارک میں ایسا وقت کب پاتا ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع کرے ، اللہ کی قسم اگر
اوقات فروخت کیے جاتے ہوتے تو عقلمند حضرات تو اسے خریدنے کے لیے ہر قیمتی چیز کو خرچ کر ڈالتے ، وقت
انسان کی زندگی اور عمر ہے جسے لامحالہ ختم ہونا ہے ۔

لہذا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ اطاعت و فرمانبرداری میں صرف کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں
جو اپنے اوقات اور زندگی کو شیطان اور اپنی خواہشات میں خرچ کرتے ہیں ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا
ہے :

(سب لوگ کوشش اور عمل کرتے ہیں کچھ تو اپنے آپ کو (اللہ کے لیے) بیچ کر (جہنم سے) آزاد کروا لیتے ہیں اور کچھ
(شیطان کے پیچھے چل کر) ہلاک کر لیتے ہیں) صحیح مسلم حدیث نمبر (223) ۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ : ہر انسان عمل اور کوشش کرتا ہے کچھ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ بیچ

کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیتے ہیں ، اور کچھ وہ بھی ہیں جو اسے شیطان اور اپنی خواہشات کی لیے بیچ دیتے ہیں اور ان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں ۔

اس ماہ مبارک کی بنسبت ان سب کھیلوں میں کم از کم یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ وقت کیا ضیاع ہیں ، اور انسان کے پاس وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں جو اس کی عمر اور زندگی ہے ۔

شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے :

وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے جس کی حفاظت کا خیال کیا جاتا ہے ، اور میں دیکھتا ہوں کہ تیرے نزدیک تو سب سے زیادہ آسانی سے ضائع ہونے والی چیز ہی وقت ہے !

پھر یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو ہی ان کھیلوں کے لیے کیوں خاص کیا جاتا ہے ، اور شعبان یا رجب اور شوال میں کیوں نہیں منعقد کرائے جاتے ؟

رمضان المبارک میں ہی مختلف چینل فلمیں اور ڈراموں کیوں پیش کرتے ہیں اور اس کا خصوصی اہتمام کیوں کیا جاتا ہے ، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تو راسخ ہو چکا ہے کہ رمضان المبارک فٹ بال اور فلموں اور ڈراموں وغیرہ کا مہینہ ہے ۔۔۔۔ الخ ۔

اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ روزوں کی حکمت سے دور ہو گئے اور غائب رہے روزوں کی حکمت کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اے ایمان والو تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو البقرة (183) ۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کے تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے کہاں ہیں ؟

لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقلمندی کا مظاہرہ کرے اور اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی نہ کرے وگرنہ اسے اس وقت ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا جب ندامت کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی ۔

وہ شخص ذلیل و خوار ہوا اور اس کا ناک مٹی میں مل گیا جس نے ماہ رمضان المبارک کو کھیل کود اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر کسی اور چیز میں راتیں گزار کر بسر کر دیں حتیٰ کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سوائے دوری اور گناہ کے کچھ حاصل نہ ہوا ۔

ایسے شخص کا ناک خاک آلودہ ہوا وہ ذلیل و خوار ہو گیا اور اس نلت کے علاوہ اسے کچھ بھی نہ ملا ۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائے ، اور انہیں بہتر اور اچھے انداز میں ان کے دین کی طرف لوٹائے ، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے اور احسن انداز میں اپنی اطاعت و عبادت کرنے میں مدد فرمائے ، اور ہم سے ہماری عبادت قبول منظور فرمائے ، یقیناً اللہ تعالیٰ قریب اور دعا کو قبول کرنے والا ہے ۔

واللہ اعلم .